

# افزائشی خدمات برائے بالغان (Developmental Services for Adults) تک رسائی کیسے ہو

## افزائشی سروسز اونٹاریو (ڈی ایس او) کیا ہے؟

افزائشی سروسز اونٹاریو (ڈی ایس او) 'افزائشی خدمات برائے بالغان تک رسائی کا مقام ہے۔ یہ خدمات' اونٹاریو میں، منسٹری آف چلڈرین، کمیونٹی اینڈ سوشل سروسز (MCCSS) اونٹاریو کی مالی امداد سے فراہم ہوتی ہیں پورے صوبے میں ڈی ایس او (DSO) کے 9 دفاتر ہیں۔

جب آپ 18 سال کے ہوجاتے ہیں، تب بچوں کی افزائشی خدمات، جیسے گھر میں خصوصی خدمات، بچوں کی شدید معذوری کی خدمات، اور اونٹاریو آٹزم پروگرام کی خدمات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپکو لازمی طور پر ڈی ایس او کو درخواست دیکر معلوم کرنا ہوگا کہ آپ کمیونٹی کے کون سے بالغوں کے پروگرام سے، جسکو (ایم سی سی ایس ایس) مالی امداد فراہم کرتا ہے، خدمات حاصل کرنے کے مستحق ہیں۔

جب آپ اپنے علاقے کے ڈی ایس او سے رابطہ کریں گے، وہ ان معاملات میں آپ کی مدد کریگا:

- درخواست کے عمل کو سمجھنے اور مکمل کرنے میں۔
- آپ کی ضرورت کے لحاظ سے خدمات اور امداد کا تعین کرنے میں۔
- (ایم سی سی ایس ایس) کی مالی خدمات اور امداد کی طرف 'جنکی آپکو ضرورت ہو اور جب کوئی جگہ دستیاب ہو، ان تک آپکی رسائی حاصل کرنے میں۔
- اپنی کمیونٹی میں معلومات کی تلاش کرنے میں۔

## مجھے کب درخواست دینی چاہئے۔

جب آپ 16 سال کے ہو جائیں تب اپنے علاقے کے ڈی ایس او کو کال کریں، یہ دیکھنے کے لئے کہ آپ خدمات کے اہل ہیں یا نہیں۔ درخواست کے عمل کو جلد شروع کرنے سے آپ 18 سال کی ہونے پر، خدمات میں تاخیر سے بچ سکتے ہیں۔ ڈی ایس او آپ کی عمر 18 سال ہونے پر آپکے علاقے میں دستیاب معاونت کا تعین اور آپ کی ضروریات کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کریگا۔

# اپنے علاقے کے ڈی ایس او کو تلاش کریں

امداد کی درخواست دینے کیلئے، آپ کو اپنے علاقے کے ڈی ایس او سے رابطہ کرنا ضروری ہے مندرجہ ذیل علاقائی فہرست سے آپ کو اپنے علاقے کے ڈی ایس او کو تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔

## **DSO Central East Region**

Serves Durham, Haliburton,  
Kawartha Lakes,  
Northumberland,  
Peterborough, Simcoe, and York.  
1-855-277-2121

## **DSO Central West Region**

Serves Dufferin, Halton, Peel,  
Waterloo, and Wellington.  
1-888-941-1121

## **DSO Eastern Region**

Serves Ottawa Region,  
Prescott-Russell, Renfrew,  
Stormont, Dundas, and Glengarry.  
1-855-376-3737

## **DSO Hamilton-Niagara Region**

Serves Brant, Haldimand-Norfolk,  
Hamilton, and Niagara.  
1-877-376-4674

## **DSO North East Region**

Serves Cochrane, Muskoka,  
Nipissing, Parry Sound, and  
Timiskaming.  
1-855-376-6376

## **DSO Northern Region**

Serves Algoma, Kenora,  
Manitoulin, Rainy River,  
Sudbury, and Thunder Bay.  
1-855-376-6673

## **DSO South East Region**

Serves Frontenac, Hastings,  
Lanark, Leeds & Grenville,  
Lennox & Addington, and  
Prince Edward.  
1-855-237-6737

## **DSO South West Region**

Serves Bruce, Chatham-Kent,

Elgin, Essex, Grey, Huron, Lambton,  
Middlesex, Oxford, and Perth.  
1-855-437-6797

**DSO Toronto Region**  
Serves Etobicoke, North York,  
Scarborough, and Toronto.  
1-855-372-3858

اپنے علاقے کے کے ڈی ایس او کے ساتھ آن لائن جڑنے کیلئے dsontario.ca کاملاحظہ کریں۔



ہم سے رجوع فرمائیں!

**dsontario.ca**

نومبر 2018